



برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ میں کرونا وائرس (کووڈ-19) کے پہلے تصدیق شدہ کیس کے متعلق سٹی آف برامپٹن کا بیان

منگل، 24 مارچ 2020

بروز پیر، 23 مارچ کو سٹی آف برامپٹن کو آگاہ کیا گیا کہ ہماری کلارک سہولت گاہ کے ایک ٹرانزٹ آپریٹر کا کرونا وائرس کی بیماری کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کا پہلا تصدیق شدہ کیس ہے۔

ہماری ٹیم اس آپریٹر کے ساتھ رابطے میں ہے، جس نے گھر پر خود کو الگ تھلگ (انسولیشن میں) رکھا ہوا ہے۔

ایسے وقت پر جب سٹی کی اولین ترجیح متاثرہ شخص اور اس کے خاندان کو معاونت فراہم کرنا ہے اور اپنے ملازمین اور کمیونٹی کی حفاظت و صحت کی حفاظت کا عمل جاری رکھنا ہے۔

جیسے ہی سٹی کو آگاہ کیا گیا، عملے نے فوراً پبلک ہیلتھ سے رابطہ کیا اور اس وقت سے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پبلک ہیلتھ اس آپریٹر کے ساتھ قریب رہنے والے ملازمین سے براہ راست رابطہ کر رہا ہے۔ رابطہ شدہ ملازمین کو اگلے اقدامات، بشمول انہیں وائرس سے سامنا ہونے کی وجہ سے 14 دن کے لیے خود کو تنہا کرنے کے متعلق ہدایات اور علامات کی نگرانی، کے حوالے سے پبلک ہیلتھ کی جانب سے مشاورت موصول ہو گی۔ پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ٹرانزٹ بس پر سواریوں کو اس سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہو گا، جو عام کمیونٹی کو ہوتا ہے۔

اس وقت پر، اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ مذکورہ آپریٹر نے 10، 11، 12 اور 13 مارچ کو درج ذیل روٹس پر کام کیا تھا:

- 11 سٹیبلز
- 51 ہینر فورڈ
- 53 رے لاسن
- 57 چارولیس

پبلک ہیلتھ اور سٹی آف برامپٹن تفصیلی اوقات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔

مندرجہ بالا دنوں میں زیر نظر ثانی بسوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو، جنہیں کسی قسم کی علامات کا سامنا نہیں، اپنے روزانہ کے معمولات جاری رکھنے چاہیں اور پبلک ہیلتھ کو کال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ممکنہ علامات کا سامنا ہو، تو براہ کرم پبلک ہیلتھ کو کال کریں۔ اگر آپ کو ہنگامی طبی معاونت درکار ہو، تو براہ کرم 911 پر کال کریں۔

سٹی کمیونٹی کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم اپنے ملازمین، گاہکوں اور کمیونٹیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد دینے کے لیے تمام ممکنہ اور متعلقہ اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ اس وقت، ہم ہر 24 گھنٹے کے بعد تمام جگہوں سے جراثیم کو صاف کر رہے ہیں۔ سہولت گاہوں اور ٹرمینل کے لنچ رومز، میزوں، کاؤنٹرز اور دروازے کے ہینڈلز کو دن میں دو مرتبہ صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔

آپریٹرز اور مسافروں کے لیے سماجی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے کے لیے:



- بس میں سواریوں کو آدھی نشستوں کی گنجائش تک محدود کر دیا گیا ہے۔
- پچھلے دروازے سے داخلہ اور بغیر کرایے کے سفر زیر اطلاق ہیں۔ اس کے علاوہ، ہم آپریٹرز اور سواریوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے پلاسٹک کی زنجیر جیسی رکاوٹ رکھ رہے ہیں، جبکہ اگلے دروازوں سے حرکت پذیری کی ڈیوائسز کے داخلے کی جگہ موجود رہے گی۔
- زیادہ مصروف روٹس پر جڑی ہونی بسیں چلائی جا رہی ہیں، تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھ سکیں۔
- سیٹوں پر پیلی ٹیپ کے ساتھ نشان لگایا گیا ہے اور مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان سیٹوں پر نہ بیٹھیں۔
- سٹی، پبل پبلک ہیلتھ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ ان کی تحقیق جاری ہے، نئی معلومات دستیاب ہوتے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca